

Fischmannen.

hiemit die P. T. Mitglieder der Anthro-
machen, dass laut Ausschussbeschluss vom
nge der „Mittheilungen“ für die Mitglieder
ge beträgt:

—1886	zusammen	fl. 36.—
—1882	per Band	„ 3.—
—1884	„ „	„ 4.—
—1886	„ „	„ 4.80

eben werden, doch werden Vormerkungen
gabe der durch Ankäufe bei Ant:

²
C' idah 2 aidi [omdeh]

C' sydeh

irho - šibšib [marant]

as Kêdoh = Rôdat [2^a farâm

böcher = mirgüt | b'achst

بؤچر

bid^x hârah = haytul h hasim^h

bisá¹ah - sêfer [sdmô[^]ke]

bisâ¹ah

basasāndh : abbaröt

besāsānuh

ai lö lö

dâfin = farmit [galambês]

diagâlet = wou

d'agâlet

digâlar = midfâ [hadé]

dih'aslob = hisyit

دِحْرَسْلَبْ = حِسْيَيْتْ

del ^hamī = lexog [lexog]

di ^hemī

di mi gâ[^]eluh = hausim

dimija[^]eluh

di^e 'arph = zavî

é
Sdg ras = a sūdīt [??]

serfir
firhar = ~~aton~~ | giradaxh |
farhidat

ḥāḥan = zarāyḥ [ḥalām]

فَرَا حَن

fär = bimhäzzet

garb^eö^ah - garb^eöbet [gargom¹ö^ah
gargom²ö^ah]

~~fsāhan~~ = ~~zarayt~~ [gīstān]
bila kawn

^{ب #}
gāusdā = gawryyn [333]

حَرْصَة

^{de}
gastärk - golu [gocândh]

gasó = arirôt

hageläläh - fawiqyyn

hajelâ leh

h'alhdal = halhal [sammän]
hidyt
besim

biyâhah
harôbuh = arabî [biaker]
= "arabi"

jädab = jedab

Scheik Othman

jädab

zêdab = merrîh [sêymah]

jih¹rah^e = Cahaym
Taulit L' als

lihan - selim ofer [hama]

لحان

mugraš
mugraš = gerizeli [barbar]

۷۰
۱۰۰
مگر

min'ah[#]ree = gargayr

منكر
مكرر

Ma'sam - Rebs

mí's'k'g = mí's'rég [m'š'k']

mí's'räg

ms'áudiok = falhasöt [váteyáki]

مَرَوِدِ مَرَوِدِ

diok = flach

mi[↑](e)har = mi[↑]hag[↑]tet [bâris^u]

nêgag = djaf [?]

nêgag

na mûroh = arêf [hauwim]

nsd lehat = selgat

nsalehat

rênab - hânem [barie]

sälz = dtön [ömdh]

Sal mādah - Sabāri
Scheich Othman

šamōmeh = bahāy [šammān]

šamōmeh

šá'k^eed

Schreib Othman

šá'k^eed

šitâmah = rihlôt

šitâmek

šihar = agōmet [‘agām]

شحر

1
sâysênôh - siruyit [sâfiyah ?
sâysêynôh

sâysênôh

Sa ti[^]oh = hayraf [Sabáqah]

ساعتی

ⁱAmikⁱka^e = gazayr [gizran]
biakayn

ambagagg
uxá'han = ambagagg 2, 1

TAL
Saankon
Saankon

EINLAD

untere flössi

zur

XXXIII. allgemeinen Versa

Die Deutsche anthropologische Gesellschaft

1902.

Um 10 Uhr: Anmeldung beim Empfangsbureau im Hôtel
hofe.

Besuch des Museums in den unteren Räumen des alten Rathhauses.
Versammeln im Kasino, Betenstrasse 18.

...estsäle des alten Rathhauses.

ف. م. ابروت 17/2
ف. م. ابروت 17/2

abbaröt f. abbaröt 26/2

abbaröt - abbaröt 26/2

abbaröt 17/2 Finch

ف. م. ابروت 26/2
ف. م. ابروت 26/2

17/2 22/2 23/2 26/2

besasannh

ai lö lö

ايديت pl. ايد
ايديت pl. ايد
ايديت - ايد

fifty

idit/pl. aid
idit pl. aid

18/2 19/2

eydeh

omah

25/2 26/2 16/2

~~130~~

agreement against 26/2

25/2 26/2 16/2
1/3 1/3 1/3
1/3 1/3 1/3
1/3 1/3 1/3

sihan

سِيحَان

cagām

م. 17/2, 27/2
أر كلبون

7

Ali Kelbün

Fink, wird gegessen

17/2



Oesterreichs

Postamt: Seine k. u. k. Hoheit


2

Adresse für Briefe und Telegramme:
Oesterr Touristen-Club, Wien.

Postsparcassen-Clearing-Verkehr:

Conto Nr. 805.215.

Telephon (interurban) Nr.



16899

Wien
K. u. K. Postamt

W. K. Postamt
Wien

2/12

مستحق
م. پت. 20000
29/10/24/3

انباری، م. انباری 28/2

انباری، م. انباری 24/3

مستحق
م. پت. 20000
28/2

uzáhan

أثبوت pl. أثبوت

f. 11

ambūt - anēb

Wadi Gudunt & Wadi Gabri
mit Kieferholz, Araukaria am Schwanz



F/2

أَنْبُوتُ 26/2 f. أَنْبُوتُ 21/2 24/2

fuf

anbôt 26/2

anbôt - anêb 21/2 24/2
anbôt 24/2

an uba arabif

arab. anûba ora anbôt mehr. 24/2

24/2 21/2 25/2 26/2

koroluk

biyāhah

tiaker

zarab

انچار مسکوت m.

filh

injara muskat m. pl dergl.

27/3

أريحا م.

فيل

أريحا م.

27/2

أريف m. pl. أريف

Fish

arêf m. arwôf

17/6

hamiroh

hamim

أَرِزُوتْ f. pl. 24/2 26/2

7

arizôt sg. pl.

ein Fisch

26/2 24/2 -

14
gasv

أسوديت 17/2

أسديوت. ف. أسديت 18/2

~~assudat~~

asūdiat f. 14/2

[arab. aswanit, assuanit ?]

asūdiat pl. asodiyōt 18/2

f. 17/2

18/2 17/2

Sejras

Castrore

Sanja

or p...
or p...
or p...

أَثُونُ ^{24/2} m. pl. أَثْنَيْنِ ^{18/2 25/2} / fihf

أَثُونُ ^{25/2}

أَثُونُ ^{24/2} m.

أَثُونُ pl. أَثْنَيْنِ ^{18/2 25/2}

أَثُونُ ^{25/2}

13/2 22/2, 24/2 25/2

DEWILHAYN

UND ANTIQUARIAT *

KÖNIGSSTRASSE 3.

omh

ipzig, den 30^{ten} X. 1915.

säli

und

he um 143 Kronen 12 Heller

o Kronen überstiegen .

Jammöneh

Spinman

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ m.

z

bējsūmāyn
Kleiner Fisch

30/3 24/3

lib

~~lib - lib~~
m.

5/3

بیتا کیو m.

z.

bitakéyu m.

ein Fisch

1/3

Lami Rae

gusran

بِلَاكَيْيْمِ، m., pl.

بِلَاكَيْيْمِ،

ز

Bilakâyim m. pl. bilakâyim
ein Fisch

4/3

بیم‌حزین م. بیم‌حزات

Tisch

bim hazrat m. bim hazzin

17/3

for

م. بَرَنْجَارْ مِسْكَوتْ

fuf

~~birinjâr miskot m.~~

birinjâr miskot m.

26/2

فهل
26/2 بزوم م. pl. بزوم

بزوم - بزوم 26/2
م.
بزوم

28/2 بزوم م. pl. بزوم

بزوم م. sg. & pl. 28/2

26/2 5/3 بزوم م. pl. بزوم 5/3 26/2

Kálhál

دیبہا دے پلے دے

دے پلے دے دے پلے

دے پلے دے دے پلے

دے پلے دے

✓

7/2

~~Borsaltee~~

ضَبَيْتَ

dabait - dibā

7/2

دَجَسْتِر f. pl. دَجَسِيْتِ
fif

dagsit^h - digásten
f. pl. fíf

[nach Mub. junger Hartort]

21/2

دَعْفِي م. دَعْفَاوْ

fill

djâf - djâfîn

2/32

[^]
megag

[^]
negag

ḡeḡ' m ḡeḡ'ḡ

7

dehâm pl. dehâmet
em^{m.} Finh

17/2

دَجَارَ m. pl. دَجَارَ

dijāra - dājārā
m.

21/2

caferioh

sey mah

دَوِيرُ

1844

da man sgl. & pl. gleich

Fink aus dem Wadi Yordan, Galiläa

✓

7/2

فر فير^ه m. pl. فر فيور^ه 17/2
فر فير^ه f. pl. فر فيور^ه 18/2
فر فير^ه 24/2

فار فير pl. فار فير

[nach Sa'id: farfiñît]

farfiñît f.

farfiñît pl. farfiñîr

18/2 17/2 24/2

Gegenstände für den b. b. natur

seiner Reise nach Sibirien

Sibirien

Sibirien

م. ص. & پ. ²جوس

2

~~gawwiy~~ gawwiyu
Fink

18/2

gärspk
die ja

فره هَدَتْ f. pl. فرِه هَدَات 18/2

fihj

farharitj - farhêd 27/2

farhirdêt f. pl. farhêd 26/2

farhirdêt pl. farhêd 18/2

(wind n. y. gegenn)

فرِه هَدَات f. pl. فرِه هَدَات 26/2, 27/2

18/2, 26/2, 27/2

فرِه هَدَات f. pl. فرِه هَدَات 27/2

جولو^و f. pl. جولو^و 22/2
جولو^و f. pl. جولو^و 23/2

fish

gölu f, kağıolu 23/2

gölu 22/2 26/2 28/2

جولو^و m. pl. جولو^و 28/2

23/2 22/2 26/2

gasháreh

gorándh

جَرَبُوتٌ f. pl. جَرَبُوتٌ 18/2 f. pl.

جَرَبُوتٌ f. pl. جَرَبُوتٌ 22/2

garbôbet f. garbôt 22/2 28/2
1/3

garrabôbet pl. garbetôt 18/2

جَرَبُوتٌ f. pl. جَرَبُوتٌ 28/2

جَرَبُوتٌ 1/3

18/2 22/2

garböckh

gargambh

gargambh

جَیْرُ ۱۳/۲ m. pl. جَیْرُ ۲۴/۲ ۱۳/۲ ۲۴/۲ *gijr*

gargāyir - gergōr
۲۴/۲

gergāir pl. gergōr
(wind nicht gegessen?)

جَیْرُ ۱۳/۲ ۲۴/۲ ohr gergāir (mets.) ۲۴/۲
gergōr met. ?

۱۳/۲ ۲۴/۲

minäher

٢٠١٠
٢٠١٠

جری 24/2 25/2 م. پل. جری 26/2 جری 27/2

gerejelli 3/3

garējelli m. garējallōy 24/2

gerejelli m. gerejellōy 25/2

gariejelli 26/2

24/2 25/2 3/3

Mughra's ✓

س

مغرا

Liban

جَرَيْنِ خَشِشْ

22

garayn hus

ein Fisch?

28/2

~~Singäken - Singäb.~~

~~1/2~~

~~7/2~~

جزیره m. جزیره بزرگ حفرت

~~غازی~~ m. گازوی - گازوی

بزرگ کافرت (in Löchern)

ziemlich großer Fink

7/2

م. پ. ل. ع. ق. ج. ٥٠٢
گوبیت ٥١٥١٣

فیف

göbe - jumabyet
m.

24/3

abak

bargak

جَوِبَتْ m. pl. جَوِبٌ

Film

gōba m. jawib'at

17b

عَزَّوَنِيَّوتِ 16 1/2
عَزَّوَنِيَّوتِ pl. 17 1/2

gazwanit f. pl. gazwanot 16 1/2

ein langer Fisch mit Zähnen

" pl. gazwanot

17 1/2 16 1/2

قَصْر

7

hadair

ein Fink

26/2

~~قاوليت~~ قاوليت m. m. قاولوط fiff

kaulit - kaulit
m

kaulit kaulit

5/3

م. سزگین

fins

mizzacken m

plangor fiff

10/1

جبل چوز m. 28/2

hubel ajus 3/3

hubel ajus m.

hubel - ajus 28/2

em poter Fink.

جبل اچوز m. 2/3

hubel ajus 2/3

28/2 2/3

fy

جَدْوَر pl. حَادِر

fish

hâder - hidîr

the grass Fish aus dem
Wadi Gabir

7/2

353 m. pt. 3927

1/11

hader - hudi
m.

der große tergäs

6/2

حجذوم pl. حجذوم
حجذوم

higdaym pl. higdom

Fisch im Wadi Ydrul

& Gabul

7/2

Journal of J. L.

جَمَلَتُ فِ حُومَلَتِ

file

komlet - himatten

2/3

جِتْوَرُ² م. پل. جِتْوَلَتِ⁰ 17/2

جِتْوَرُ² م. جِتْوَرُ⁰ 27/2 || am f. جِتْوَرُ²

28/2

هِتْوَلُ⁰ 21/2

هِتْوَلُ⁰ م. هِتْوَلَتِ⁰

هِتْوَلُ⁰ م. جِتْوَرُ² 28/2

هِتْوَلُ⁰

17/2 21/2

حَيْتُو 24/2 25/2 m pl. حَيْتُو 25/2

fiyy

haytūl_m - hayātalt 27/2

hāitūl 24/2 pl. Jāy. 25/2

حَيْتُو[?] m. حَيْتُو 27/2

حَيْتُو haytūl 28/2

24/2 29/2 27/2

bid'ānah

hasūn

حسبوتن . م . حسبت
fif

hisyt, hisyuten

24/3

dihislob

om
ب ج د

خودتین m pl. خدین 23/2 fits

haidin m. hadiyen
hödin m. habiyen 23/2

23/2 22/2 21/3

خَدَّيْنِ m. pl. خَدَّيْنِ

ع

hadin m. pl. hadiyen
ein Fisch

24/3

خَدِيسَتِ f. pl. خَدِ || pl. خَادِ 20/2 full
26/2

خَدِيسَتِ f. pl. خَدِ 20/2

karlyit - hâdi

schwarzer Fisch

haddis pl. hâd 20/2

20/2 17/2 21/2 26/2

خَادِ 23/2 28/2
ف. م. خَدِيسَتِ

7

hidyit f. m. hâdi 23/2, 28/2
ein Fisch

23/2

خفتوت

z

kafesöt
em Fisch

26/2

~~Gift~~

~~gold'lein~~

~~Gift~~

خَلْجَانُ f. m. خَلْجَانُ 22/2 28/2

فيل

halhâl - kallôkil

halhâl 22/2 28/2

خَلْجَانُ f. m. خَلْجَانُ 26/2

halhâl m. kallôkil

22/2 26/2

Kälhal

Spennan

خونون m. pl. خنن

fif

hanên - hanwôn
m.

6/3

Renab

base

خزوف | pl. ^مخيزف ^مخيزف

خزوف ^مخيزف

sati^hoh

om
27
1

Sabagah

hauziom

amizâ eluk

der Eintritt für die Gäste). — Abends 6 Uhr Gemeinsames
Abends 9 Uhr eventuell Zusammentreffen mit Amsterdamer

Uhr Besuch des Anatomischen Museums unter Führung
ragen anthropologischen Interesses bereit erklärt hat. —
die Amsterdamer Zimmereinrichtungen. — Mittags 12⁴⁶ (16)

Fahrt mit dem electricischen Tram bis zum Marktplatz,
als); mit der Pferdebahn weiter zum Hout: Besuch des
Dal“ um 6 Uhr. — Abfahrt nach Leiden 10⁰⁰ (10²⁰) oder
d eventuelles Zusammentreffen mit dortigen Fachgenossen.
Besuch des Ethnographischen Reichsmuseums, Abtheilung
und des Hortus (ältester botanischer Garten Europas). —
ches des Ethnographischen Reichsmuseums: Malayischer
che Sammlung) und Afrika und Amerika. — 4^{1/2} Uhr
Mittagessen.

Uhr Besuch des Reichsmuseums für Alterthümer (nieder-

چَد بُونْت | چَد بُونْت | چَد بُونْت | چَد بُونْت | چَد بُونْت
17/2 17/2 17/2 17/2 17/2

jidbin - jid'banet
m.

چَد بُونْت 24/2 - jidbiyen

jidbin pl. jidbont 17/2

~~jidbin~~ jidbonet pl. jidbin 13/2

jedbin 24/2

18/2 27/2

26/2 27/2

Sehe die Rückseite!

چَدْبِنْتِ m. pl. 25/2 7

چَدْبِيْنِ m. pl. 27/2

j'iddbin m. pl. jedé'benet 25/2 27/2
ein Fink

چَدْبِيْنِ m. pl. 26/2

jiddbin pl. jidbiyen 26/2

qidebin

25/2

جِنَفْ pl. جِنَوْفْ 4/3

finy

jenêf^{m.} - jenôf 4/3

جِنَفْ^{m.} pl. جِنَوْفْ 5/3

jinêf^{m.} pl. jinôf 5/3

4/3 5/3

چِرَوَشْ m. pl. چِرَوَشْ

filif

چِرَوَشْ
jerans m.

22/2

fiff 5/3 چیز کتنی f. p. چیز کت

25/3 چیز کتنی f. p. چیز کت

25/3 چیز کتنی f. p. چیز کت

5/3 , 25/3

Za^a ma mgh

vo o' m. pl. ^{vo} ³³ كبت 20/2 22/2 23/2 fiff

Kab's - Kabûs' 22/2 23/2
m. Kûbûs'

Kab's pl. Kûbûs' 20/2

20/2 23/2 22/2 21/2

Ma'sam

اَكْوَدَاتُ m. pl. كُوْدَاتُ

fish

Kōdat - akwēdat
m.

Kleiner Fisch

25/2

askîdsh

Zafarân

گش m. pl. گش

7

Kass
ein Fisch

26/2

لاهاي
هنا

7

La Haye
Haifish

8/2

jirch

als.

لَحْرُؤِنَةٌ pl. لَحْرُؤِينٌ

فلف

lahzām - lahzāunt

Fork aus dem Wād. Yidnūt & Gabūr.



712

m. كز و ج

lexog[^]m

fif

sh

dilemni

lesoy

مَدُدِيْهِ لَحْمِيْسِيْ

7

madudih Lahmisit
em Fisch

28/2

مدوفاً m. pl. مَدَوْفَاءُ

fitt

midfâ

mdôfa'

27/3

digalar

hade

مَجْسِبٌ م. ط. مَجْسِبٌ 27/2

fif

مَجْسِبٌ م. - مَجْسِبٌ 27/2

27/2

18/2 16/3

Fish

minyik 16/3

minit (soll hepen minyik)

mas. pl. minioK 18/2



18/2 16/3

م. pl. 25/2

7

م. 27/2

merrîh m. pl. merîh

ein Fisch

25/2

~~27~~
~~S.M.~~

jēdab

seymak

~~hony - hony~~

~~hony~~

میریت f. pl. میریت

میریت - میری

۲/۳

hadch

750

badh

مِسْ حَيْوَتِ فِ مِسْ حَيْوَتِ 22/2

فقط

مِسْ حَايِدَتِ فِ مِسْ حَايِصِيَّوَتِ 22/2

مِسْ حَايِدَتِ فِ مِسْ حَايِصِيَّوَتِ 23/2
26/2

مِسْ حَيْوَتِ فِ مِسْ حَيْوَتِ 23/2 26/2

23/2 26/2

historische Hofmuseum erworben,
den ihm ausgesetzten Betrag von

Mittheilung

Baris

11
Misaag

Mäskt

(No. 5-17), well

Selen geschw.!

en!

نُوْبُونُ f. نُوْبُونُ 20/2 21/2 22/2 23/2 ffff
نُوْبُونُ

nubun - nubon 20/2
nubon 22/2 23/2

23/2, 22/2, 21/2, 20/2

ج. نوبون لغرووت f. m. نوبين د غرووت

nubîn d- garwêt f.
pl. nubôn lajarwêt
ein Fisch

28/2

Kēdiher

Kōdēr

gahās

نُسُورُ pt. نُسُورِينَ 16/2
نُسُورُ pt. نُسُورِينَ 17/2 fish

نُسُورُ m., pl. نُسُورِينَ 16/2

ein hoher Fink

نُسُورُ pt. نُسُورِينَ 17/2

17/2 16/2

Landesfürst

Erhebung

chischer Touristen

Memor

diagnose

S^h isāmech

سرینیت

سرینیت

16/3

16/3

شوب 24/2

sóbi. pl. sabûs

sôbi 24/2

fufy

17/2 24/2

di hon yoh

sagey

سليم اوfer 21/2 | سليم اوfer 22/2 | سليم اوfer 23/2 | سليم اوfer 24/2

Finch

Selim offer

21/2 22/2 23/2 24/2

1/2

liban

لبنان

Liban

~~Liban~~

Hamir

شَبَشَبِيبُ m. pl. شَبَشَبُوبُ 22/2 fgh

sib s^zib - s^vib s^vib 22/2

22/2

Cinco

milian

شَوَّوْ لِيحْ . ف . م . شَلْغَتْ

Ruh

~~ش~~ 1 salgat f. ~~ش~~ 1 siwôlij

17/10

nsalehat = sel

شَجَابُ pl. شَجَابَةٌ

dky

šingābah pl. šingāb

Wati Girant - Galusi

— 7/2

bisā¹ah

skimō¹ke

تَوَقُّفٌ، ف. م. تَوَقُّفٌ

ف. م.

säglet - sunvägel

27/3

تغوم m. pl. تغوم
تغوم
fif

segôm - sagmîn
m.

21/2

Der Gefertigte hat anlässlich

in Schaiich Othman ethnographisch

تَوْبٌ m. pl. تَوْبٌ

فقط

سَوْبٌ m. pl. سَوْبٌ

27/2

٧٥ تَرْجَاتُ pl. تَرْوَجَتْ ١٧/٢

fuf

tergās - terôgēs
m
١٧/٢ ٢٥/٢

٧٥ تَرْجَاتُ x ٢٥/٢

Klein

٧٥ تَرْجَاتُ m. pl. تَرْوَجَتْ tergās, m. terôgēs' ٢٨/٢ ٦/٣

٧٥ تَرْجَاتُ m. pl. تَرْوَجَتْ ٦/٣
Klein Baden

17/2 25/2 6/3

قَرُوجَاتُ m. pl. تَرْجَاتُ

فيل

سَرْجَاتُ m. - لَرْجَاتُ

26/12

28/2 ظَفَشَ f. m. ظَفَشَت

fiḥf

ṭafṣḥāt f. ṭaf'āsh

ṭafṣāḥut f. m. ṭafāṣāḥ 28/2

2/3 ظَفَشَ f. m. ظَفَشَت

ṭafṣḥōt m. ṭafāḥš 2/3

2/3

ف. pl. ظَلَّحْشَتْ od. ظَلَّحْشَتْ 17/2 22/2 26/2 fifty

26/2
27/2
28/2

talhasô f. talhas 17/2, 22/2 26/2

ظَلَّحْشَتْ 18/2

talhasô f. pl. ظَلَّحْشَتْ talhas 18/2

ف. pl. ظَلَّحْشَتْ 28/2

talhasut pl. tallahs 23/2
18/2 17/2 22/2 26/2 27/2

msan diok

matyah

diok = flauk

0 2
28 → 9 30

طَرْمِيْتِ f. pl. طَرْمِيْتِ 5/3 fitf

tarmit f. tarmuten 24/3
- tiranten

tarmit f. pl. tiranten 5/3

طَرْمِيْتِ f. pl. طَرْمِيْتِ 24/3 5/3, 24/3

طَرِيرٌ pl. طَرِيرٌ وَتٌ 7/2 || pl. طَرِيرٌ

fif

✓

فَارِيرٌ - فَارِيرَةٌ aus dem Wardi Gebirge 7/2

فَارِيرٌ - تِيرَةٌ aus dem Meere 2 1/2

Fisch

✓

2 1/2, 7/2

Tagar

ظروف م. ظروف
5

fish

Lawryya - turwô
m

Kl. Fish

11/5

Kajetálek

زینب m. pl. زینب

فیل

Zinib - Zinib
m.

großer Fisch zum Essen
von Sa'id gebracht

7h

زریت f-pl. زرا 20/2 17/2 22/2 23/2 27/2 fiff

Zarā^h f - zarā

Zarā^h f zarā 22/2

zarā 20/2

zarā 23/2 27/2

17/2 20/2 23/2 22/2 27/2

Isâhan

قزاقستان

Kafâm

di' arch

abraham = laric [b'ar'am]

'aferiroh = dijara [sêymah]

زوب m. pl. ^{و ز ب} زبو 17/2 زب 21/2

" Zōbi - Zāwâ benet 21/2

m. Zabîy 24/2

zōbi pl. zobîwî 17/2

زوب m. pl. زبوی 24/2

17/2 25/2 24/2 21/2

وزیر

Fisch

Mezif

am ~~Klein~~ Fiskar,
für Klein

die Klein äyd (nach Arab.)
sowie der Daga von Mach Othman, aber Klein.
[hadr: auch وزیر]

10/
12